



قومی خواتین کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف تاریخ بدلنے کے لیے پرعزم

- آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ میں شامل 3 ایک روزہ میچز 9، 12 اور 14 دسمبر کو کوالالمپور میں کھیلے جائیں گے
- ایک روزہ سیریز میں شامل تینوں میچز پی سی بی کے یوٹیوب چینل پر لائیو اسٹریم کیے جائیں گے
- بطور ٹیم، کارکردگی میں بہتری آئی ہے، انگلینڈ کو سرپرائز کر دیں گے، کپتان قومی خواتین ٹیم بسمعہ معروف
- گذشتہ چند سالوں میں پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی کارکردگی میں نکھار آیا ہے، امید ہے سیریز میں اچھا مقابلہ ہوگا، کپتان انگلینڈ ویمنز ٹیم ہیتھر نائٹ

لاہور، 8 دسمبر 2019ء:

آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ 2021 میں براہ راست رسائی حاصل کرنے کے لیے قومی خواتین کرکٹ ٹیم کو پیر سے شروع ہونے والی سیریز میں انگلینڈ کو شکست دینا اہم ہے۔ دوسری طرف انگلینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ کے ساتویں راؤنڈ میں بھی کامیابی حاصل کر کے پاکستان کے خلاف ناقابل شکست رہنے کا اپنا ریکارڈ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ میں شامل تین ایک روزہ میچز کا آغاز 9 دسمبر سے ہوگا۔

قومی ویمنز ٹیم تاحال 15 پوائنٹس کے ساتھ آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ کے پوائنٹس ٹیبل پر پانچویں پوزیشن پر موجود ہے تاہم چوتھے نمبر پر موجود جنوبی افریقہ کے پوائنٹس کی تعداد 14 ہے۔ پوائنٹس ٹیبل پر انگلینڈ کا دوسرا نمبر ہے۔

دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ کنرارا اول، کوالالمپور میں ہوگا۔ قومی خواتین کرکٹ ٹیم بسمعہ معروف کی قیادت میں انگلینڈ کے خلاف جلوہ گر ہوگی۔ گذشتہ چند ماہ میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی کارکردگی میں واضح بہتری ہے۔

رواں سال کے آغاز میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو ایک روزہ سیریز میں 1-2 سے شکست دینے کے بعد جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش کے خلاف سیریز برابر کیں۔

انگلینڈ کے خلاف تین ایک روزہ میچز پر مشتمل سیریز کے تمام میچز جیتنے پر پاکستان کو 6 اہم پوائنٹس ملیں گے جن کی بنیاد پر پاکستان کی آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ 2021 میں براہ راست رسائی کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ نیوزی لینڈ میں شیڈول ایونٹ میں میزبان ٹیم کے علاوہ 4 ٹاپ ٹیمیں براہ راست رسائی حاصل کریں گی۔

پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر موجود انگلینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم نے 2021 میں شیڈول ایونٹ کے لیے رسائی حاصل کر لی ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم سال 2019 میں 12 میں سے 7 میچز جیت چکی ہے۔ انہوں نے ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کو شکست دی تاہم انہیں آسٹریلیا اور بھارت سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔

ایک روزہ سیریز میں شامل تینوں میچز پی سی بی کے یوٹیوب چینل پر لائیو اسٹریم کیے جائیں گے۔ شائقین کرکٹ تک بہترین کرکٹ ایکشن پہنچانے کے لیے پی سی بی کے یوٹیوب چینل پر 8 کیمروں سے بہترین کوریج فراہم کی جائے گی۔

بسمعہ معروف، کپتان قومی خواتین کرکٹ ٹیم:

قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمعہ معروف کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز ایک چیلنج ہے اور ہم اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی خواتین کرکٹرز سیریز میں اہم پوائنٹس کے حصول کے لیے انگلینڈ کے خلاف میچز میں کامیابی کے لیے پر عزم ہیں۔

بسمعہ معروف نے کہا کہ ملائیشیا کی کنڈیشنز انگلینڈ سے مختلف ہیں اور ویسے بھی قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی کارکردگی میں حوصلہ افزاء بہتری آئی ہے، پاکستان کی ٹیم اس سے قبل 2017 میں انگلینڈ کے مدمقابل آئی تھی جبکہ اس مرتبہ ٹیم میں نئے چہرے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی خواتین کرکٹ ٹیم انگلینڈ کو سرپرائز کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔

ہیتھر نائٹ، کپتان انگلینڈ ویمنز ٹیم:

انگلینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان ہیتھر نائٹ کا کہنا ہے کہ ٹیم میں نئی کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے اور یہ سیریز ان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ میں مستقل جگہ بنانے کا اہم موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے گذشتہ چند سالوں میں بہترین کھیل پیش کیا ہے اور یہ ٹیم

آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ میں براہ راست رسائی حاصل کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہے۔

ہیتھر نائٹ نے کہا کہ ملائیشیا کی کنڈیشنز ان کے لیے نئی ہیں، امید ہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔

اس دوران تین ایک روزہ میچز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آصف یعقوب اور راشد ریاض آن فیلڈ امپائرز جبکہ کالی داس ریزرو امپائر کے فرائض انجام دیں گے۔ محمد جاوید کوسیریز کے لیے میچ ریفری مقرر کیا گیا ہے۔

اسکواڈ:

پاکستان:

بسمعہ معروف (کپتان)، عالیہ ریاض، انعم امین، عروب شاہ، ڈیانا بیگ، فاطمہ ثناء، جویریہ خان، کائنات حفیظ، نابیدہ خان، نشرہ سندھو، ندا ڈار، عمیمہ سہیل، رامین شمیم، سدرہ امین اور سدرہ نواز۔

شیڈول:

- 9 دسمبر: پہلا ایک روزہ میچ، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ بمقام کنرار اکیڈمی اول (آئی سی ویمنز چیمپئن شپ)
- 12 دسمبر: دوسرا ایک روزہ میچ، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ بمقام کنرار اکیڈمی اول (آئی سی ویمنز چیمپئن شپ)
- 14 دسمبر: تیسرا ایک روزہ میچ، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ بمقام کنرار اکیڈمی اول (آئی سی ویمنز چیمپئن شپ)

– ENDS –

Media contact:س

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk